

آپ کے لئے ہدایت نامہ برائے نیو یارک سٹی چارٹر رویژن کمیشن 2019

چارٹر کیا ہے؟

نیو یارک سٹی چارٹر شہر کا آئین ہے۔ یہ ہماری حکومت کے لئے دائرہ کار تخلیق کرتا ہے۔ یہ چارٹر شہر کی طرف سے ہمارے ٹیکس ڈالرز کے خرچ کے انداز، ہمارے رہائشی علاقوں میں کی تبدیلیوں کے بارے میں فیصلے لینے کے انداز، اور ہمارے منتخب نمائندوں کی طاقت کو کنٹرول کرتا ہے۔ قریب 30 سال قبل، ایک چارٹر رویژن کمیشن نے شہری حکومت کی مکمل درستی کی۔ ہم اسے ایک نئی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اس خزاں میں، نیویارک کے باشندوں کے پاس انتخابات سے لے کر پولیس کے احتساب تک مسائل کے ایک وسیع سلسلے کا احاطہ کرنے والی بیلٹ تجاویز پر رائے شماری کر کے اپنے چارٹر میں ترمیم کرنے کا ایک موقع ہوگا۔

5 نومبر کو آپ اس بارے میں رائے شماری کر سکتے ہیں۔ (یا پھر 26 اکتوبر - 3 نومبر تک پہلے ووٹ دے دیں۔)

بیلٹ پر دی جانے والی تجاویز کیا ہیں؟

انتخابات:

- شہر کے منتخب افسران جیسے میئر اور سٹی کونسل ممبران کے لئے پرائمری اور خصوصی انتخابات میں درجہ بندی کردہ اختیارات کی رائے شماری استعمال کریں۔
- کسی منتخب افسر کے اپنی مدت کے دوران کے دفتر چھوڑنے اور ایک خصوصی انتخاب کے انعقاد کے درمیان وقت کو 45 تا 80 دن تک بڑھائیں۔
- ضلعوں کی دوبارہ حلقہ بندیوں کے لئے ٹائم لائن میں ترمیم کریں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مستقبل کے پرائمری سٹی کونسل انتخابات کے لئے ضلعوں کی حد بندی وقت پر کی گئی ہے۔

سویلین کمپلینٹ ریونیو بورڈ (CCRB):

- CCRB بورڈ میں دو ممبران شامل کریں، ایک جس کی تقرری پبلک ایڈووکیٹ کی جانب سے کی گئی ہو اور ایک جس کی تقرری میئر اور سٹی کونسل کے اسپیکر (جو چیئر پرسن کی حیثیت سے خدمات انجام دے گا/گی) کی طرف سے اکھٹے کی گئی ہو۔
- پولیس کمیشنر سے تقاضا کریں کہ وہ CCRB کو اس صورت میں وضاحت فراہم کرے جب وہ CCRB کی انضباطی سفارشات سے انحراف کرتا/کرتی ہو۔
- CCRB ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کو سب پینا (subpoena) کا اختیار دیں۔
- CCRB کو اجازت دیں کہ کسی زیر تفتیش افسر کی جانب سے دیے جانے والے ممکنہ طور پر جھوٹے سرکاری بیانات کی تفتیش کریں اور، اگر مناسب ہو، تو انضباطی سفارش دے۔
- CCRB بجٹ کی ضمانت دیں۔



آپ اس پر رائے شماری کر سکتے ہیں۔

تجاویز (جاری):

اخلاقیات اور حکومت:

- شہری خدمت چھوڑنے کے دو سال بعد تک منتخب افسران اور تقرر کردہ اعلیٰ افسران کو شہری حکومت کی لابیٹنگ سے روکا جائے۔
- کانفلکٹ آف انٹرسٹ بورڈ (Conflict of Interest Board) کے موجودہ میئر کی جانب سے تقرر کردہ دو ممبران کو ایک کنٹرولر کی جانب سے اور ایک پبلک ایڈووکیٹ کی جانب سے تقرر کردہ ممبران سے بدل دیں۔
- COIB بورڈ کے ممبران کو مقامی منتخب کردہ دفاتر کے لیے مہمات میں شرکت سے روک دیں، اور زیادہ سے زیادہ رقم کی اس مقدار کو گھٹا دیں جو وہ بطور حصہ ڈال سکتے ہیں۔
- شہر بھر کے اقلیتی/ خواتین کے زیر ملکیت کاروباری انٹرپرائزز (M/WBE) سے تقاضا کریں کہ وہ براہ راست میئر کو اطلاع دیں۔
- میئر کی جانب سے کارپوریشن کونسل کی تقرری کے لیے سٹی کونسل کی جانب سے مشورے اور آمادگی—یعنی جانچ پڑتال کے نظام— کا تقاضا کریں۔

شہر کا بجٹ:

- شہر کو مستقبل کے سالوں میں استعمال کے لیے پیسے کی بچت کے لیے ایک "آڑے وقتوں کا فنڈ" استعمال کرنے کی اجازت دیں (بصورت ریاستی قانون اجازت دے)۔ پبلک ایڈووکیٹ اور بوروز کے صدور کے لئے بجٹس کی ضمانت دیں۔
- میئر سے تقاضا کریں کہ وہ (5 جون کی بجائے) 25 مئی تک سٹی کونسل میں آمدنی کا تخمینہ جمع کروائے۔ میئر سے تقاضا کریں کہ وہ شہر کے مالی منصوبے میں ترمیم کے 30 دنوں کے اندر سٹی کونسل کو بجٹ میں کی جانے والی ترمیم جمع کروائے۔

زمین کا استعمال (ULURP)

ڈپارٹمنٹ آف سٹی پلاننگ سے درخواست کی عوامی نظرثانی کے لیے تصدیق سے 30 دن قبل پراجیکٹ کا مفصل خلاصہ فراہم کرنے کا تقاضا کرتے ہوئے متاثرہ کمیونٹی بورڈز، بورو صدور اور بورو بورڈز کو ULURP درخواستوں کا پیشگی نوٹس دیں۔ گرمیوں کے دوران کمیونٹی بورڈز کو ULURP درخواستوں پر نظرثانی کے لئے اضافی وقت دیں۔



SCAN ME

مزید جانیے: charter2019.nyc/finalreport



#NYCrevision

charter2019.nyc

NYC کی تاریخ بنا ڈالیں۔